



برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے چرچ ویل کے علاقے میں سیلاب کے ہنگامی ردعمل کے بعد اب بحالی کے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے

برامپٹن، آن (23 فروری 2022) – آج، سٹی آف برامپٹن کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے انسپیکٹرز، فائر چیف بل بوائز نے بتایا ہے کہ چرچ ویل ایریا میں سیلاب کے ردعمل کی کارروائیوں کے بعد اب علاقے اور رہائشیوں کی بحالی کا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔

آج چرچ ویل کے علاقے کے تمام رہائشی اپنے گھروں کو واپس جانے کے قابل ہو گئے ہیں۔

سٹی کی پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم اور برامپٹن کا ایمرجنسی منیجمنٹ آفس بحالی کی کارروائیوں کو جاری رکھے گا جس میں برف کو ہٹانے، صفائی کی کوششیں اور ضروری یوٹیلیٹی سروسز کو مربوط کرنے کے علاوہ مقامی رہائشیوں کو مدد فراہم کرنا بھی شامل ہے۔

چرچ ویل برج گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند ہے اور کریڈٹ ویو روڈ صرف مقامی ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ چرچ ویل پارک ساؤتھ اس وقت بند ہے اور سٹی کا پارکس کا عملہ اس علاقے کی بحالی کے منصوبے پر کریڈٹ ویلی کنزرویشن کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ خراب شدہ سڑکوں اور شوٹرز کی مرمت کا کوئی بھی ضروری کام گرمیوں کے مہینوں میں ہو گا۔

آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی نہیں کی گئی، تاہم موسم کے انداز کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی میں کسی قسم کی تبدیلیوں اور ان سے متعلقہ کسی قسم کے اثرات کا بغور جائزہ لیں۔

ڈیزاسٹر ریکوری اسسٹینس فار اونٹوریو (DRAO) پروگرام کے ذریعے ممکنہ مالی امداد کے لیے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے ایک صوبائی ڈیزاسٹر اسسٹینس ٹیم کل نقصان والے علاقوں میں موجود ہو گی۔

سٹی آف برامپٹن اپنی پارٹنر تنظیموں ریجن آف پیل، پیل ریجنل پولیس، کریڈٹ ویلی کنزرویشن، الیکٹریکل سیفٹی اتھارٹی، اینیریج، الیکٹرا، ہمارے کمیونٹی پارٹنرز گلوبل میڈیک اور خالص ایڈ اور معاون کنٹریکٹرز کا اس ہنگامی صورتحال کے دوران ان کی جانب سے بھرپور مدد کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca